



## سوال

(23) جو پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ جنت سے آئے تھے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا جو پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ جنت سے آئے تھے یا کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے، اگر وہ جنت سے تھے تو «**تَوَالَّعَيْنَ رَأَتَ وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ**» کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟

(۲) اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں قبر میں جنتی پھل میں نے خود کھایا ہے کیونکہ اس جھسا یا اتنا بیٹھا آج تک ہم نے کہیں پھل دیکھا ہی نہیں، کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

قرآن نے (مریم علیہ السلام کے پاس جو پھل آئے تھے اس کے متعلق) جنت کا پھل ہونے کا ذکر نہیں کیا، صرف **من عَنِ اللّٰہِ** کہا ہے یعنی اللہ کے ہاں سے ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس ہی پیدا کیا ہو یا کہیں اور جگہ یا ملک سے پہنچایا ہو۔ ہو سکتا ہے جنت سے میا کیا ہو، ہربات کا احتمال ہے اور اگر جنت سے ہی میا کیا ہو تو پھر بھی یہ واقعہ (**نَالَّعِيْنَ رَأَتَ وَلَا أُذُنْ سَمِعَتْ**) والی حدیث سے متعارض نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں آپ کا یہ فرمان بھی ہے: ((بَلْ مَا طَعْمَتُمْ عَلَيْهِ)) ان نعمتوں کا ذکر ہی پھر ہڑو جن پر تمہیں مطلع کیا گیا ہے معلوم کہ جنت کے کئی اشیاء ایسی ہیں جن پر ہمیں مطلع کیا گیا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ سننا اور نہ کسی کے دل میں خیال تک آیا، اگر مریم والے پھل جنتی ہوں تو پھر وہ ان میں شامل ہوں گے جن پر ہمیں مطلع کیا گیا ہے۔

(۲) اگر اس کہنے والے کا یہ مقصد ہو کہ میں فلاں قبر کے پاس گیا تو وہاں مجاورین بہت اعلیٰ پھل تقسیم کر رہے تھے میں نے لے کر کھایا تو اتنا بیٹھا جیسا کہ جنت کا پھل ہے تو یہ ایک قسم کا محاورہ ہے اور تشبیہ کلام ہے اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کا مقصد قبر کے اندر سے جنت کا پھل کھانے کا ہو تو پھر یہ درست نہیں، کیونکہ اس قسم کا کلام ایک صاحب وحی کے سوا اور کوئی نہیں کہہ سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کے کلام صاحب وحی سے ثابت نہیں ہے لہذا اس قسم کی بات فضول ہے۔ (مولانا ابوالبرکات شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ)

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب



جعفریان اسلامی  
الرئیسیه  
مدد فلسفی

**ص 092 جلد**

**محدث فتویٰ**